

سیلاب کے لیے تیار ہو جائیں

چند سادہ سے کاموں سے زندگی بچ سکتی ہے

آپ کا مقامی سیلاب کا خطرہ

ہاکسبری - نیپیان (Hawkesbury-Nepean) کی سیلابوں کی ایک لمبی تاریخ ہے۔

جب شدید بارش ہوتی ہے، تو پانچ بڑے دریاؤں کا پانی نیچے بہاؤ کرتا ہے۔ ایبنزر (Ebenezer) تا سپینسر (Spencer) تنگ گھاٹیوں کے باعث سمندر تک اس کے پہنچنے کی رفتار تقریباً 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سست ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلابی پانی پیچھے اکٹھا ہوجاتا ہے اور وہ فوراً اوپر ہوجاتا ہے، جس کی وجہ سے وسیع، گہرے اور خطرناک سیلاب آتے ہیں۔

سیلابی پانی میں چھپے ہوئے خطرات ہوتے ہیں جیسا کہ ملبہ، بجلی کی تاریں، آلودگی اور سیوریج۔ سیلاب میں، پلیں ٹوٹ سکتی ہیں، سڑکیں بند ہو سکتی ہیں، عوامی ٹرانسپورٹ کے راستوں میں رکاوٹ آ سکتی ہے، بجلی بند ہو سکتی ہے اور موبائل فون اور انٹرنیٹ کنکشنز میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔

سیلابی میدان میں رہنے والے ہر شخص کے لیے یہ بات اہم ہے کہ وہ تیار رہیں۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیں www.myfloodrisk.nsw.gov.au

سیلاب کے دوران کیا کرنا ہوگا

NSW SES کے سیلاب کے بارے میں مشورے اور ایمرجنسی تنبیہات پر عمل پیرا ہوں



- سیلاب کی تازہ ترین معلومات اور مشورے کے لیے مقامی ABC ریڈیو اسٹیشن کو سنیں
- SES کے مشورے پر عمل کریں۔ اگر آپ کو انخلاء کے لیے کہا جائے، تو اتنا انتظار نہ کریں کہ بہت دیر ہو جائے۔

اپنی 'جانے کے لیے تیار رہنے کی' کٹ کو اٹھا لیں



- اس میں آپ کی ادویات، نسخہ ہائے جات اور امدادی سازوسامان شامل ہونا چاہیے

اپنے جانوروں کو ساتھ لے لیں



- انہیں رسیوں سے باندھ کر یا پنجروں میں رکھیں
- خوراک، ادویات اور رجسٹریشن / ویکسینیشن کی دستاویزات اٹھا لیں

آپ کو معلوم ہو کہ کہاں جانا ہے



- انخلاء کے بارے میں مشورے پر عمل پیرا ہوں اور ٹریفک کی لائیو معلومات کو چیک کریں
- سیلابی میدان سے باہر اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کے ہاں چلے جائیں اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو
- ایمرجنسی کے وقت انخلاء کے سرکاری مراکز کا اعلان کر دیا جائیگا

ایک دوسرے کا خیال رکھیں



- خاندان، دوستوں، اور ہمسایوں کے ساتھ معلومات کا اشتراک کریں۔ ایک دوسرے کی مدد کریں خاص طور پر ان لوگوں کی جنہیں مدد کی ضرورت ہو

کسی سیلاب سے پہلے کیسے تیار ہونا ہے

✓ آپ کو معلوم ہو کہ تازہ ترین صورتحال اور تنبیہات کہاں سے مل سکتی ہیں

- مقامی موسم کی تازہ ترین صورتحال کے لیے بیورو آف میٹورولوجی
- سیلاب اور طوفانوں کے بارے میں معلومات کے لیے NSW اسٹیٹ ایمرجنسی سروس (NSW SES)
- ABC ریڈیو بطور ایمرجنسی کے لیے سرکاری نشریاتی ادارہ

✓ بنا لیں "جانے کے لیے تیار رہنے کی" کٹ

کیا رکھنا ہے:

1. صحت کی دیکھ بھال والی اشیاء جیسا کہ ادویات اور نسخہ ہائے جات
2. آپ کی اہم دستاویزات کی نقول (ہارڈ کاپیاں اور ڈیجیٹل طریقے سے اسٹور شدہ)
3. قیمتی اشیاء اور یادگاری چیزیں
4. اہم فون نمبر
5. ریڈیو، ٹارچ، فون چارجرز اور بیٹریاں
6. کپڑے اور ذاتی استعمال کی چیزیں

✓ انخلاء کے لیے ایک منصوبہ بنائیں

آپ کو معلوم ہو کہ آپ کہاں جائیں گے، آپ وہاں کیسے پہنچیں گے، آپ انخلاء کے کونسے راستے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنے جانوروں کے ساتھ کیا کریں گے، اور آپ اپنی صحت کا کیسے انتظام و انصرام کریں گے

✓ اپنے منصوبے کا اشتراک کریں

اپنے رشتہ داروں، دوستوں، اور ہمسایوں سے بات کریں کہ اگر آپ کو انخلاء کی ضرورت پڑی تو آپ کیا کریں گے

کیا مدد کی ضرورت ہے؟



سیلابوں میں ہنگامی مدد کے لیے کال کریں
NSW SES کو 132 500

دیگر تمام زندگی کو درپیش خطرات والی
ایمرجنسیوں کے لیے کال کریں 000

• سننے/بولنے کے نقص والے ایس ایم ایس کریں
NRS: 0423 677 767

• انٹرنیٹ ریلے: <https://internet-relay.nrsconnect.gov.au>

• اگر آپ بے گھر ہیں تو کال کریں Link2Home کو
پر 1800 152 152

• اگر ایک ترجمان کی ضرورت ہو تو، ایمرجنسی سروسز ترجمے کی
خدمات تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں

کہاں معلومات
ڈھونڈھیں

وزٹ کرنے کے لیے مفید ویب سائٹس اور ڈوان لوڈ
کرنے کے لیے فون ایپس

• مقامی موسم کی تازہ ترین صورتحال: www.bom.gov.au
اور بیورو آف میٹورولوجی ایپ

• مقامی ABC ریڈیو فریکوئنسی: <https://reception.abc.net.au>
اور ABC Listen ایپ

• سیلاب اور طوفانی کی تازہ ترین صورتحال:
www.ses.nsw.gov.au
www.facebook.com.au/NSW.SES

• اپنے جانوروں کے لیے منصوبہ بنائیں:
www.getreadyanimals.nsw.gov.au

• ٹریفک کی لائیو معلومات: www.livetraffic.com
اور Live Traffic ایپ

میرے اہم روابط



ہنگامی حالت میں آپ کو کس کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہوگی؟

(مثلاً ایمرجنسی رابطہ، رشتہ دار، دوست، ڈاکٹر، فارماسسٹ، نگہداشت کرنیوالا، سپورٹ ورکر، Link2Home)

..... فون: نام:

میری چیک لسٹ



میں تیار ہوں کیونکہ:



← میں جانتا/جانتی ہوں کہ میں موسم کی تازہ ترین صورتحال، تنبیہات اور مشورہ کہاں سے ڈھونڈھ سکتا/سکتی ہوں

← میں جانتا/جانتی ہوں کہ میں انخلاء کی صورت میں کہاں جاؤں گا/گی اور میں وہاں سے کیسے پہنچوں گا/گی

← میں جانتا/جانتی ہوں کہ میں اپنے ساتھ کیا لیکر جاؤں گا/گی

← میں نے اپنے گھر والوں سے بات کر لی ہے کہ اگر ہمیں انخلاء کی ضرورت پڑی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا

← میرے پاس اپنے جانوروں کو محفوظ رکھنے کا ایک منصوبہ ہے

← میں جانتا/جانتی ہوں کہ میں اپنی صحت کی دیکھ بھال کر لوں گا/گی

← میں نے اپنے منصوبے کے بارے میں رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسایوں سے بات کر لی ہے

← میرے پاس اپنے اہم نمبروں کی ایک فہرست تیار ہے